

Ecc

Chapter 2

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

וְהִנֵּה	בְּטוֹב	וְרָאָה	בְּשִׂמְחָה	אֶנְסִכָּהּ	נָא	לְכֶ-הָ	בְּלִבִּי	אֲנִי	אֲמַרְתִּי	1
اور-دیکھو	بھلائی-میں	اور-دیکھو	خوشی-سے	آزماؤں	ذرا	آؤ	دل-میں-اپنے	میں	کہا-میں-نے	
H2009		H7200	H8057	H5254	H4994	H3212		H0589	H0559	

גַּם- הוּא הִבֵּל:
یہ-بھی یہ بیکار
[H1892](#) [H1931](#) [H1571](#)

نکلابی باطل بھی یہ لیکن کرا! تجربہ کا چیزوں اچھی کر آزما کو خوشی آ، کہا، سے آپ اپنے نے میں

לְשׁוֹק	אֲמַרְתִּי	מְהוֹלָל	וְלִשְׂמֹחָה	מֵה-	זֶה	עֲשֵׂה:	2
بنسی-کو	کہا-میں-نے	دیوانہ	اور-خوشی-کو	کیا	یہ	کرتی-بے	
H7814	H0559		H8057	H4100	H2090		

ہے؟ بوتلا حاصل کیا سے خوشی اور ہے، بے بودہ ہنسنا بولا، میں

וְלִאֲחוּז	בְּחִכְמָהּ	נִהַג	וְלִבִּי	בְּשָׂרִי	אֶת-	בֵּינָן	לְמִשׁוֹד	בְּלִבִּי	תִּרְתִּי	3
اور-پکڑنے	حکمت-سے	چلانے	اور-دل-میرا	جسم-اپنے	کو	شراب-سے	کھینچنے	دل-میں-اپنے	سوچا-میں-نے	
H0270	H2451			H1320	H0853	H3196	H4900		H8446	

תַּחַת	יַעֲשֵׂו	אֲשֶׁר	הָאָדָם	לְבַנִּי	טוֹב	זֶה	אֵי-	אֲרָאָה	אֲשֶׁר-	עַד	בְּסִכְלוֹת
نیچے	کریں	جو	آدم-کے	بیٹوں-کو	اچھا	یہ	کہاں	دیکھوں-میں	جب	تک	حماقت-کو
H8478			H0120			H2088	H0335	H7200		H5704	

הַשָּׁמַיִם מִסְפָּר יָמֵי חַיֵּיהֶם:
آسمان-کے شمار دنوں-میں زندگی-کے-ان-کی
[H3117](#) [H4557](#) [H8064](#)

تھی، کوشش کی کرنے معلوم حکمت میری بھی پیچھے کے اس نکالے۔ ڈھونڈ طریقے کے اپنانے حماقت اور کرنے تازہ و تر سے مے جسم اپنا میں دل نے میں ہے۔ مفید کرنا کچھ کیا لئے کے اُس رہے جیتا تالے آسمان انسان تک جب کہ تھا چاہتا دیکھنا میں کیونکہ

הַגִּדְלֹתַי	מַעֲשֵׂי	בְּנִיתִי	לִי	בְּתִים	נִטְעַנִּי	לִי	כְּרָמִים:	4
بڑے-کام-کے	کام-میں-نے	بنائے	اپنے-لیے	گھر	لگائے	اپنے-لیے	انگور-کے-باغ	
H1431	H4639	H1129			H5193	H3754		

لگائے، تاکستان کنے، تعمیر مکان لئے اپنے دیئے، انجام کام بڑے بڑے نے میں

עֲשִׂיתִי	לִי	נִנּוֹת	וּפְרֻדִּים	וְנִטְעַנִּי	בָּהֶם	עֵץ	כָּל-	פְּרִי:	5
بنائے	اپنے-لیے	باغات	اور-باغیچے	اور-لگائے	ان-میں	درخت	بر-طرح-کے	پھل-دار	
		H1593	H6508	H5193		H6086	H3605	H6529	

لگائے۔ درخت دار پھل کے قسم مختلف میں اُن کر لگا پارک اور باغ متعدد

עֲשִׂיתִי	לִי	בְּרִכּוֹת	מַיִם	לְהִשְׁקוֹת	מֵהֶם	יַעַר	צוֹמֵחַ	עֲצִים:	6
بنائے	اپنے-لیے	تالاب	پانی-کے	سیراب-کرنے	ان-سے	جنگل-کو	اگنے	درختوں-کے	
		H1295	H4325	H8248	H1992		H6779	H6086	

بنوائے۔ تالاب نے میں لئے کے پاشی آب کی جنگل والے پھولنے پھلنے

7	קָנִיתִי	עֲבָדִים	וּשְׁפָחוֹת	וּבְנֵי-	בֵּית	הָיָה	לִי	נָם	מִקְנֵה	בְּקָר
	خریدے	غلام	اور- لونڈیاں	اور- گھر- میں- پیدا- ہونے- والے	گھر- کے	تھے	میرے- پاس	بھی	مویشی	گائے
	H7069	H5650	H8198		H1961		H1571	H4735	H1241	

وְצֹאן	הַרְבֵּה	הָיָה	לִי	מִכָּל	שְׂהוּי	לִפְנֵי	בִירוּשָׁלַם:
اور- بھیڑ	بہت	تھے	میرے- پاس	سب- سے- زیادہ	جو- تھے	مجھ- سے- پہلے	یروشلم- میں
H6629		H1961		H3605	H1961	H6440	H3389

پہلے سے مجھ جتنی ملیں بھیڑیکریاں اور گائے بیل اُننے مجھے تھے۔ ہوئے پیدا میں گھر جو تھے بہت بھی غلام ایسے لیں۔ خرید لونڈیاں اور غلام نے میں تھیں۔ نہ حاصل کو کسی میں یروشلم

8	כְּנֶסְתִי	לִי	נָם-	כֶּסֶף	וְזָהָב	וּסְנֵלֶת	מְלָכִים	וְהַמְדִינֹת	עֲשִׂיתִי	לִי	שָׂרִים
	جمع- کیا	اپنے- لیے	بھی	چاندی	اور- سونا	اور- خزانہ	بادشاہوں- کا	اور- صوبوں- کا	بنائے	اپنے- لیے	گانے- والے
	H3664	H1571	H3701	H2091	H5459	H4428	H4082			H7891	

וְשָׂרוֹת	וְתַעֲנוּגֹת	בְּנֵי	הָאָדָם	שָׂדֵה	וְשָׂדוֹת:
اور- گانے- والیاں	اور- عیش	بیٹوں- کی	آدم- کے	عورت	اور- عورتیں
H7891	H8588		H0120	H7705	H7705

چیزیں ایسی کی کثرت ساتھ ساتھ کئے، حاصل خواتین و مرد گلوکار نے میں کئے۔ جمع خزانے کے صوبوں اور بادشاہوں اور چاندی سونا لئے اپنے نے میں ہے۔ بہلاتا دل اپنا انسان سے جن

9	וְנִדְרָתִי	וְהוֹסַפְתִּי	מִכָּל	שְׂהוּי	לִפְנֵי	בִירוּשָׁלַם	אָף	חֲכָמָתִי	עֲמֻדָה
	اور- بڑا- ہوا	اور- بڑھتا- گیا	سب- سے- زیادہ	جو- تھے	مجھ- سے- پہلے	یروشلم- میں	بھی	حکمت- میری	رہی
	H1431	H3254	H3605	H1961	H6440	H3389	H0637	H2451	H5975

لִי:
میرے- ساتھ

رہی۔ قائم میں دل میرے حکمت میری میں کام ہر اور تھے۔ میں یروشلم پہلے سے مجھ جو کی حاصل سبقت پر سب اُن کے کر ترقی بہت نے میں یوں

10	וְכָל	אֲשֶׁר	שָׂאֲלוּ	עֵינֵי	לֹא	אֶצְלָתִי	מֵהֶם	לֹא-	מְנַעַתִי	אֶת-	לְבִי
	اور- سب	جو	چاہتی- تھیں	آنکھیں- میری	نہیں	روکا	ان- سے	نہیں	روکا- میں- نے	کو	دل- اپنے
	H3605		H7592		H3808	H0680	H1992	H3808	H4513	H0853	

מִכָּל-	שְׂמֹחָה	כִּי-	לְבִי	שְׂמֹחָה	מִכָּל-	עַמְלִי	וְזָה-	הָיָה	חֲלָקִי	מִכָּל-
کسی	خوشی- سے	کیونکہ	دل- میرا	خوش- تھا	سب	محنت- سے- میری	اور- یہ	تھا	حصہ- میرا	سب
H3605	H8057			H8056	H3605	H5999	H2088	H1961		H3605

עַמְלִי:
محنت- سے- میری
[H5999](#)

سے کام ہر میرے نے دل میرے کیا۔ نہ انکار کا خوشی بھی کسی سے دل اپنے نے میں کیا، مہیا لئے کے اُن نے میں وہ تھیں چاہتی آنکھیں میری بھی کچھ جو رہا۔ اجر کا مشقت محنت تمام میری یہ اور اُٹھایا، لطف

11	וּפְנִיתִי	אֵינִי	בְּכָל-	מַעֲשֵׂי	שְׂעָשׂוּ	יָדֵי	וּבְעַמְלִי	שְׂעַמְלָתִי
	اور- پھرا- میں	میں	سب	کاموں- کی- طرف	جو- کیے	ہاتھوں- نے- میرے	اور- محنت- میں	جو- محنت- کی- میں- نے
	H6437	H0589	H3605	H4639		H3027	H5999	H5998

לְעֵשׂוֹת	וְהִזְהָ	חֲכָל	הַכָּל	וְרַעוֹת	רוּחַ	וְאֵין	וְיִתְרוֹן	תְּחַת	הַשָּׁמֶשׁ:
کرنے- میں	اور- دیکھو	سب	بیکار	اور- چرانا	ہوا- کا	اور- نہیں	فائدہ	نیچے	سورج- کے
	H2009	H3605	H1892	H7469	H7307	H0369	H3504	H8478	H8121

کو ہوا اور باطل کچھ سب کہ نکلا یہی نتیجہ تو تھی کی نے میں جو کا مشقت محنت اُس لیا، جائزہ کا کاموں تمام کے ہاتھوں اپنے نے میں جب لیکن ہوتا۔ نہیں فائدہ کا کام بھی کسی تلے سورج ہے۔ برابر کے پکڑنے

12	וּפְנִיחֵי	אֲנִי	לְרֵאוֹת	חֻכְמָה	וְהוֹלָלוֹת	וְסִכְלוֹת	אֲנִי	מָה	הָאָדָם	שִׁבּוֹא	אֲחֵרֵי
	اور-پہرا-میں	میں	دیکھنے	حکمت	اور-دیوانگی	اور-حماقت	کیونکہ	کیا	آدمی	جو-آئے-گا	بعد
	H6437	H0589	H7200	H2451	H1947			H4100	H0120	H0935	

הַמֶּלֶךְ הַבָּשָׂרִית אֶת אֲשֶׁר-כָּבַד עֲשׂוּהוּ:
 بادشاہ-کے کو جو پہلے-بی کیا-گیا-ہے
 [H4428](#) [H0853](#) [H3528](#)

پہلے جو کچھ وہی گا؟ کرے کیا وہ گا بو نشین تخت پر وفات کی بادشاہ آدمی جو سوچا، نے میں لگا۔ کرنے غور پر حماقت اور بے بودگی حکمت، میں پھر ہے! چکا جا کیا بھی

13	וְרֵאִיתִי	אֲנִי	נִשְׁשׁ	יִתְרוֹן	לְחֻכְמָה	מִן-	הַסִּכְלוֹת	כִּיתְרוֹן	הָאֹר	מִן-
	اور-دیکھا-میں-نے	میں	کہ-ہے	فائدہ	حکمت-کو	سے	حماقت	جیسا-فائدہ	روشنی-کو	سے
	H7200	H0589	H3426	H3504	H2451			H3504	H0216	

הַחֲשִׁירָה:
 اندھیرے
 [H2822](#)

ہے۔ بہتر سے حماقت حکمت طرح اسی ہے بہتر سے اندھیرے روشنی طرح جس کہ دیکھا نے میں

14	הַחֲכָמִים	עֵינָיו	בְּרֵאשׁוֹ	וְהַכְּסִיל	בְּחֻשָׁף	הוֹלֵךְ	וְיִדְעֵתִי	נִם-	אֲנִי	שִׁמְקָה
	حکیم-کی	آنکھیں	سر-میں-اس-کے	اور-احمق	اندھیرے-میں	چلتا-ہے	اور-جانا-میں-نے	بھی	میں	کہ-انجام
	H2450			H3684	H2822	H1980	H3045	H1571	H0589	H4745

אֶחָד אֶת-כָּל־סָבִיב יִקְרָה אֶת-כָּל־סָבִיב:
 ایک پیش-آتا-ہے کو سب
 [H0259](#) [H0853](#) [H3605](#)

ہے۔ انجام ہی ایک کا دونوں کہ لیا جان بھی یہ نے میں لیکن ہے۔ چلتا میں ہی اندھیرے احمق جبکہ ہیں آنکھیں میں سر کے مند دانش

15	וְאִמְרָתִי	אֲנִי	בְּלִבִּי	כְּמִקְרָה	הַכְּסִיל	נִם-	אֲנִי	יִקְרָנִי	וְלִמָּה	חֻכְמָתִי
	اور-کہا-میں-نے	میں	دل-میں-اپنے	جیسا-انجام	احمق-کا	بھی	میرا	پیش-آئے-گا	اور-کیوں	حکیم-بنا-میں
	H0559	H0589		H4745	H3684	H1571	H0589		H4100	H2449

אֲנִי אֶת-כָּל־סָבִיב יִקְרָה אֶת-כָּל־סָבִיב:
 میں تب زیادہ اور-کہا-میں-نے دل-میں-اپنے کہ-یہ-بھی یہ بیکار
 [H0589](#) [H3148](#) [H1696](#) [H2088](#) [H1892](#)

ہے۔ باطل بھی یہ ہے؟ فائدہ کیا کرنے حاصل حکمت زیادہ اتنی پھر تو گا۔ ہو بھی میرا انجام سا کا احمق کہا، میں دل نے میں

16	כִּי	אֵין	זְכוּרוֹן	לְחֻכְמָה	עִם-	הַכְּסִיל	לְעוֹלָם	בְּשִׂכְרָר	הַיָּמִים	הַבָּאִים	הַכֹּל
	کیونکہ	نہیں	یاد	حکیم-کی	ساتھ	احمق-کے	بمیشہ	کیونکہ-پہلے-ہی	دنوں-میں	آنے-والے	سب
	H0369	H2146	H2450	H3684	H5769			H3528	H3117	H0935	H3605

נִשְׁכַּח וְאֵיךְ יָמוּת הַחֲכָמִים עִם-הַכְּסִיל:
 بھول-جائے-گا اور-کیسے مرتا-ہے حکیم ساتھ احمق-کے
 [H7911](#) [H4191](#) [H2450](#) [H3684](#)

بھی کو مند دانش طرح کی احمق گی۔ جائے مٹ یاد کی سب میں دنوں والے آنے گی۔ رہے نہیں تک ہمیشہ بھی یاد کی مند دانش طرح کی احمق کیونکہ ہے! ہی مرنا

17	וְשִׁנְאוֹתָי	אֶת-	תְּחִלָּים	כִּי	רַע	עָלָי	הַמַּעֲשָׂה	שָׁנְעָשָׂה	תַּחַת	הַשָּׁמַשׁ
	اور-نفرت-کی-میں-نے	سے	زندگی	کیونکہ	برا	مجھ-پر	کام	جو-کیا-جاتا-ہے	نیچے	سورج-کے
	H8130	H0853					H4639		H8478	H8121

כִּי-הַכֹּל הִבָּל וְרָעוֹת רִיחַ:
 کیونکہ سب بیکار اور-چرانا ہوا-کا
 [H3605](#) [H1892](#) [H7469](#) [H7307](#)

برابر کے پکڑنے کو بوا اور باطل کچھ سب کیونکہ لگا، بُرا مجھے وہ ہے جاتا کیا تلے سورج کام بھی جو لگا۔ کرنے نفرت سے زندگی میں سوچتے سوچتے یوں ہے۔

18	וְשִׁנְאַתִּי	אֲנִי	אֶת-	כָּל-	עֲמָלִי	שְׂאֵנִי	עָמַל	תַּחַת	הַשָּׁמַיִם
	اور-نفرت-کی-میں-نے	میں	سے	سب	محنت-اپنی	جو-میں	محنت-کرتا-ہوں	نیچے	سورج-کے
	H8130	H0589	H0853	H3605	H5999	H0589	H8478	H8478	H8121
	שְׂאֵנִי תָנוּ	לְאָדָם	שִׂיחִיָּה	אֶחָרִי:					
	کیونکہ-چھوڑوں-گا	آدمی-کو	جو-ہوگا	میرے-بعد					
	H3240	H0120	H1961						

میرے جو ہے چھوڑنا لے کے اُس کچھ سب یہ مجھے کیونکہ گئی، ہو نفرت مجھے سے اُس تھا کیا حاصل سے مشقت محنت بھی کچھ جو نے میں تلے سورج گا۔ اُسے جگہ میری بعد

19	וּמִי	יֹדְעֵ	הַחֲכָמִים	יְהִיָּה	אֲנִי	סֹכְלִי	וְיִשְׁלַטָּ	בְּכָל-	עֲמָלִי
	اور-کون	جانتا-ہے	حکیم	ہوگا	یا	احمق	اور-حکمرانی-کرے-گا	سب-پر	محنت-میری
	H4310	H3045	H2450	H1961		H5530	H7980	H3605	H5999
	שְׂעִמְלֹתַי	וְשִׁחְקֵמֹתַי	תַּחַת	הַשָּׁמַיִם	גַּם-	זָה	הַקָּבֵל:		
	جو-محنت-کی-میں-نے	اور-حکمت-کی-میں-نے	نیچے	سورج-کے	یہ-بھی	یہ	بیکار		
	H5998	H2449	H8478	H8121	H1571	H2088	H1892		

پوری اپنی تلے سورج نے میں لے کے کرنے حاصل جو گا ہو مالک کا چیزوں تمام اُن وہ ہو، بھی جو لیکن گا؟ ہو احمق یا مند دانش وہ کہ معلوم کیا اور ہے۔ باطل بھی یہ ہے۔ کی صرف حکمت اور طاقت

20	וּסְבוּתַי	אֲנִי	לִיֹּאֲשׁ	אֶת-	לְבִי	עַל	כָּל-	הָעֲמָלִי	תַּחַת
	اور-پہرا-میں	میں	مایوس-کرنے	کو	دل-اپنے	بارے-میں	سب-کے	محنت	جو-محنت-کی-میں-نے
	H5437	H0589	H2976	H0853		H3605	H5999	H8478	H8478
	הַשָּׁמַיִם:								
	سورج-کے								
	H8121								

لگی۔ سی بے کار وہ تھی کی تلے سورج نے میں مشقت محنت بھی جو کیونکہ لگا، ہارنے ہمت کر ہو مایوس دل میرا تب

21	כִּי-	יֵשׁ	אָדָם	שְׂעִמְלָו	בְּחֻכְמָה	וּבְדַעַת	וּבְכִשְׁרוֹן	וּלְאָדָם	שְׂלָא
	کیونکہ	ہے	آدمی	جس-کی-محنت	حکمت-سے	اور-علم-سے	اور-مہارت-سے	اور-آدمی-کو	جو-نہیں
	H3426	H0120	H5999	H2451	H1847	H3788	H0120	H3808	
	עֲמָל-	בּוֹ	יִתְנֶנּוּ	חֶלְקוֹ	גַּם-	זָה	הַקָּבֵל	וְרַעְיָה	רַבָּה:
	محنت-کی	اس-میں	دے-گا	حصہ-اس-کا	یہ-بھی	یہ	بیکار	اور-برائی	بڑی
	H5998	H5414		H1571	H2088	H1892			

بھی اُنکلی ایک لے کے اُس نے جس ہے چھوڑنا لے کے کسی کچھ سب اُسے آخرکار کرے، نہ کیوں سے مہارت اور علم حکمت، کام اپنا انسان خواہ کیونکہ ہے۔ مصیبت بڑی اور باطل بھی یہ ہلائی۔ نہیں

22	כִּי	מָה-	הָיָה	לְאָדָם	בְּכָל-	עֲמָלָו	וּבְרַעְיוֹן	לְבוֹ	שְׂהוּא
	کیونکہ	کیا	ہوتا-ہے	آدمی-کو	سب-میں	محنت-اس-کی	اور-فکر-میں	دل-اس-کے	جو-وہ
	H4100	H0120	H3605	H5999	H7475	H1931			
	תַּחַת	הַשָּׁמַיִם:							
	نیچے	سورج-کے							
	H8478	H8121							

ہے؟ لیا کر حاصل کچھ سب ساتھ کے کوششوں اور مشقت محنت اتنی تلے سورج نے اُس جبکہ ہے، رہتا قائم کچھ کیا لے کے انسان میں آخر کیونکہ

23	כִּי	כָּל־	יָמָיו	מַכְאִבִים	וְכָעֵס	עֲנִינּוֹ	גַם־	בְּלַיְלָה	לֹא־	שָׁכַב	לִבּוֹ
	کیونکہ	سب	دن-اس-کے	درد	اور-غم	مشقت-اس-کی	بھی	رات-کو	نہیں	سوتا	دل-اس-کا
		H3605	H3117	H4341		H6045	H1571	H3915	H3808	H7901	

גַם־
 יְהוָה
 הֶחֱבִיל הוּא:
 یہ-بھی
 یہ
 بیکار
 ہے
[H1571](#) [H2088](#) [H1892](#) [H1931](#)

ہے۔ بی باطل بھی یہ پاتا۔ نہیں آرام دل کا اُس بھی کو رات ہیں، ربتے بھرے سے رنجیدگی اور دکھ دن تمام کے اُس

24	אֵינֶן	טוֹב	בְּעֵמְלֹ	גַם־	נִפְשׁוֹ	אֶת־	וְהִרְאָה	וְשָׁתָה	שָׁיֵאכֵל	בְּאָדָם	טוֹב	אֵינֶן
	نہیں-ہے	اچھا	محنت-میں-اپنی	یہ-بھی	جان-اپنی	کو	اور-دکھائے	اور-پیئے	جو-کھائے	آدمی-میں	اچھا	نہیں-ہے
	H0369		H5999	H1571	H5315	H0853	H7200	H8354	H0398	H0120		

זֶה
 יֵה
 דִּיכָהָ-میں-نہ
 میں
 کہ
 ہاتھ-سے
 خدایا-کے
 ہے
[H2090](#) [H7200](#) [H0589](#) [H3027](#) [H0430](#) [H1931](#)

سب یہ ہی اللہ کہ لیا جان بھی یہ نے میں لیکن ہو۔ اندوز لطف سے پھل کے مشقت محنت اپنی اور پیئے کھائے کہ ہے یہ بات اچھی سے سب لئے کے انسان ہے۔ کرتا مہیا کچھ

25	כִּי	מִי	יֵאכֵל	וּמִי	יִחֹושׁ	חַוִּץ	מִמֶּנִּי:
	کیونکہ	کون	کھائے	اور-کون	لذت-اٹھائے	بابر	مجھ-سے
	H4310	H4310	H0398	H4310		H2351	

نہیں! کوئی ہے؟ سکتا ہو خوش کر کھا کون بغیر کے اُس کیونکہ

26	כִּי	לְאָדָם	שְׂטוּב	לְפָנָיו	נָתַן	חֲכִמָּה	וְדַעַת	וְשִׂמְחָה	וְלַחֹטֵא	נָתַן
	کیونکہ	آدمی-کو	جو-اچھا-ہے	اس-کے-سامنے	دیا-ہے	حکمت	اور-علم	اور-خوشی	اور-گنہگار-کو	دیا-ہے
		H0120		H6440	H5414	H2451	H1847	H8057	H2398	H5414

عَنْبُؤ	لְאִסְוָה	וְלִכְזוֹס	לְתַת	לְטוֹב	לְפָנָיו	הָאֱלֹהִים	גַם־	יְהוָה	הֶחֱבִיל	וְדַעַת	רִיחַ:
مشقت	جمع-کرنے	اور-اکٹھا-کرنے	دینے-کو	اچھے-کو	سامنے	خدایا-کے	یہ-بھی	یہ	بیکار	اور-چرانا	ہوا-کا
H6045	H0622	H3664	H5414		H6440	H0430	H1571	H2088	H1892	H7469	H7307

تاکہ ہے دیتا داری ذمہ کی کرنے ذخیرہ اور کرنے جمع وہ کو گار گناہ لیکن ہے، کرتا عطا خوشی اور عرفان و علم حکمت، وہ اُسے ہو منظور کو اللہ انسان جو ہے۔ برابر کے پکڑنے کو ہوا اور باطل بھی یہ جائے۔ کی حوالے کے شخص منظور کو اللہ دولت یہ میں بعد